

تعلقات عامہ و میڈیا کو آرڈی نیٹر آفس

جامعہ ملیہ اسلامیہ

نئی دہلی

14 دسمبر 2020

پریس ریلیز

جامعہ ملیہ اسلامیہ نے ٹیچر ایجوکیشن میں دو ہفتوں کا ریفریشر کورس شروع

یونیورسٹی کی فیکلٹی آف ایجوکیشن کے تعاون سے یو جی سی-ہیومن ریسورس ڈویلپمنٹ سینٹر (یو جی سی-ایچ آر ڈی سی) ، جامعہ ملیہ اسلامیہ ، نئی دہلی نے دو ہفتوں پر مشتمل ریفریشر کورس شروع کیا۔ ہندوستان بھر کی مختلف یونیورسٹیوں اور کالجوں کے 75 سے زیادہ فیکلٹی ممبروں نے شرکت کی ۔

افتتاحی اجلاس کا آغاز آج یو جی سی - ایچ آر ڈی سی ، ڈائریکٹر پروفیسر انیس الرحمن کے استقبالیہ خطاب سے ہوا۔ پروفیسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر ، جامعہ ملیہ اسلامیہ افتتاحی سیشن میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھیں ۔ اس سیشن کی صدارت پروفیسر اعجاز مسیح ، ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن اور نوڈل آفیسر ، اسکول آف ایجوکیشن سکریٹ آف ایجوکیشن سکیم کے تحت پنڈت مدن موہن مالویہ نیشنل مشن ٹیچرز اینڈ ٹیچنگ نے کی۔

اپنے افتتاحی خطاب کے دوران پروفیسر نجمہ اختر نے ریفریشر کورس کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ تدریس کو ایک اہم ترین پیشہ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ 'آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اس پیشے سے وابستہ ہیں اور معاشرے کی ایک اہم ضرورت کو پورا کر رہے ہیں ۔ اب قوم کو آگے لے جانے کے لئے آپ پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں'۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ میں استعداد کار کی تشکیل و تعمیر کو عام طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں ناخوشگوار تعلیمی نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ اس خلیج کو دور کرنے کے لئے ، اپڈیٹ کرنے والا تربیتی پروگرام کے ساتھ ساتھ تعلیم کی باریکیوں کو سمجھنے کے لئے بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا سیکھنا ایک بتدریج عمل ہے ، اس وجہ سے ، اساتذہ کو سیکھنے پر توجہ دینی چاہئے تاکہ وہ سیکھنے والوں کی ضروریات کو پوری کر سکیں ۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ شرکاء کو اس ریفریشر پروگرام میں کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا جو ان کی آئندہ نشوونما اور معاشرتی تبدیلی کے لئے کارآمد ثابت ہوں گے۔ اپنے صدارت خطاب میں پروفیسر اعجاز مسیح نے کہا کہ یہ ریفریشر پروگرام اس لحاظ سے بہت انوکھا ہے کہ معزز وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر خود ایک معروف ماہر تعلیم اور ایک ٹیچر ایجوکیٹر ہیں۔ پروفیسر مسیح نے جدید طریقہ تعلیم پر توجہ پر زور دیا ۔

کورس کوآرڈینیٹرز ڈاکٹر سجاد احمد ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ڈاکٹر انصر احمد ، شعبہ ٹیچر ٹریننگ اینڈ این ایف ای (ائی اے ایس ای) ، جامعہ ملیہ اسلامیہ ، نئی دہلی نے مشترکہ طور پر پروگرام کا جائزہ اور آگے کے پروگرام کا خاکہ پیش کیا۔

احمد عظیم

پی ار او-میڈیا کوآرڈینیٹر